

## 7886- نماز میں دعاء کرنے کا مناسب طریقہ

### سوال

میں نماز میں دعاء کرنے کا مناسب اور وہ طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کیا یہ نماز کے بعد ہے، یا کہ دو سجدوں کے مابین یا قیام میں یا کسی اور وقت؟

### پسندیدہ جواب

#### اول:

اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کوئی ایک جگہ دعاء کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ نماز میں دعاء کو کئی ایک مقام پر کی جاتی ہے، علماء کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ تکبیر تحریمہ سے لیٹر سلام تک کئی ایک مقام پر دعاء ہوتی ہے۔

اور یہ بھی کہ نماز کے بعد دعاء کرنا سنت ہے، اس وقت کئی ایک دعائیں ہیں، جن کا بیان ان شاء اللہ آگے ہوگا۔

اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر اور اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے افضل علم اور قول وہ ہے جو سنت نبویہ کے موافق ہو، اور الفاظ بھی سب سے بہتر اور افضل وہی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں؛ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، اور ان میں سے سب سے زیادہ فصیح اللسان بھی تھے، اور بیان کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق دی تھی کہ بہت سے معانی کو بہت ہی قلیل سی کلام میں بیان فرما دیتے تھے جسے جوامع الکلم کا نام دیا جاتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

"مجھے جوامع الکلم دے کر مبعوث کیا گیا ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (6611) صحیح مسلم حدیث نمبر (523)۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جوامع الکلم یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے امور جو پہلی کتابوں میں لکھے جاتے تھے وہ ایک یا دو امر میں جمع فرما دیتے۔

تو اس بنا پر اگر آپ نماز میں مشروع مقامات پر دعاء کرنا چاہتے ہیں جہاں دعا کرنی مستحب ہے تو پھر افضل ترین دعاء وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے اس لیے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ والی دعاء ہی کریں۔

#### دوم:

اگر آپ ایسا نہ کر سکیں، اور آپ کو یہ دعائیں حفظ نہیں تو پھر سب سے بہترین دعاء وہ جو تکلف اور تصنع اور کلام میں بیہلاؤ سے دور ہو، اور جو مسجع متفجع کلام سے بعید ہو، اور دعاء اپنی اس ضرورت اور حاجت کے موافق ہو جو آپ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اسے کھول دے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا:

"تم نماز میں کیا کہو گے؟"

تو اس شخص نے عرض کیا میں تشدد پڑھ کر پھر یہ دعاء کرونگا:

"اللهم انی اسألك الجیمہ وأعوذ بك من النار"

اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں"

لیکن میں آپ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنگناہٹ کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتا۔

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ان دونوں کے ارد گرد ہی گنگناؤ"

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (792) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابوداؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

سوم:

اور نماز سے سلام پھیر کر دعاء کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل کلمات کہا کرتے تھے:

"استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ" پھر باقی دعائیں کرتے جو احادیث میں وارد ہیں۔ ان کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر (7646) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

"ہمارے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنا ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، آج کل جو لوگ فرضی نماز کے بعد ہاتھ

اٹھا کر دعاء کرتے ہیں اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں ہے" اھ

دیکھیں: مجموع الفتاویٰ ابن باز (74/1)۔

اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

نماز سے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ یا مقتدیوں کی جانب رخ کر کے دعاء کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی صحیح یا پھر حسن روایت ملتی ہے۔

اسی طرح نماز فجر اور نماز عصر کو اس کے لیے خاص کرنا بھی کسی خلیفہ راشد سے ثابت ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور نہ ہی اپنی امت کی اس طرف راہنمائی کی۔

بلکہ سنت کے عوض میں کسی شخص نے اسے اچھا اور مستحسن عمل قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔

نماز کے متعلقہ عام دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیں اور اس کا حکم بھی دیا، نمازی کے شایان شان بھی یہی ہے، کیونکہ نمازی اپنے رب کے سامنے کھڑا اس سے سرگوشیاں اور مناجات کر رہا ہے، لہذا جب نماز سے سلام پھیر لیا تو یہ مناجات و سرگوشیاں ختم ہو گئیں، اور اس کے سامنے سے یہ کھڑا ہونا اور قرب زائل ہو گیا، تو پھر وہ مناجات و سرگوشیاں کرنے اور قرب کی حالت اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے وقت کس طرح اس سے سوال کرنا ترک کرتا ہے، لیکن جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس سے سوال کرنا شروع کر دیا؟!

بلاشک و شبہ اس کے برعکس حالت نمازی کے لیے بہتر اور اولیٰ ہے، مگر یہاں ایک بہت ہی لطیف اور باریک نقطہ ہے وہ کہ: جب نمازی نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس وحدانیت اور حمد و تعریف اور تکبیر مشروع اذکار کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور اس کے بعد جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا مستحب ہے، تو اس کی یہ دعاء اس دوسری عبادت کے بعد ہوگی، نہ کہ نماز کے بعد کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور اس کی حمد و تعریف بیان کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اس کے بعد دعاء کرنا مستحب ہے۔

جیسا کہ فضائل بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے:

"جب تم میں سے کوئی نماز ادا کرے تو الحمد للہ اور اللہ کی ثناء سے ابتداء کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر جو چاہے دعاء کرے"

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

دیکھیں: زاد المعاد (257/1-258).

چہارم:

نماز میں دعاء کے مقامات کو ذیل میں مختصر طور پر پیش کرتے ہیں:

1- تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورۃ فاتحہ سے قبل درج ذیل دعاء پڑھی جائیگی، اسے دعاء افتتاح کا نام دیا جاتا ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے، میں نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر تحریمہ اور قرأت کے مابین خاموشی کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یہ کلمات پڑھتا ہوں:

"اللهم باعد بینی وبين خطايي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايي كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد"

اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈال رکھی ہے، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح ایک سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے برف، پانی، اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال

صحیح بخاری حدیث نمبر (711) صحیح مسلم حدیث نمبر (598).

2- وتر کی دعاء قنوت :

حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں :

"مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ کلمات سکھائے :

"اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقتي شرما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت"

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں ہدایت نصیب فرما جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے عافیت دی ہے ان میں مجھے بھی عافیت سے نواز، اور جن لوگوں تو خود والی بنا ہے ان میں میرا بھی والی بن، اور تو نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ تو فیصلے کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یقیناً جس کا تو دوست بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کا تو دشمن بن جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اے ہمارے رب تو عزت والا اور بلند و بالا ہے"

سنن ترمذی حدیث نمبر (464) سنن نسائی حدیث نمبر (1745) سنن ابوداؤد حدیث نمبر (1425) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1178) اس حدیث کو ترمذی وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر (429) میں صحیح قرار دیا ہے۔

3- مسلمانوں پر عمومی مصائب نازل ہونے کے وقت رکوع کے بعد اٹھ کر دعاء کرنا جسے قنوت نازلہ کا نام دیا جاتا ہے۔

یہ دعاء ہر فرضی نماز میں عام ہے اور حالات کے مطابق دعاء کی جاتی ہے مقتدی امام کے پیچھے آمین کہیں گے۔

اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے آپ سوال نمبر (20031) کا جواب دیکھیں۔

4- رکوع میں پڑھی جانے والی دعائیں :

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے :

"سببانک اللهم ربنا وسجدک اللهم اغفر لی"

اے اللہ ہمارے رب تو پاک ہے، اور تو اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (761) صحیح مسلم حدیث نمبر (484).

5- سجدہ میں کی جانے والی دعاء :

اور پھر سجدہ میں دعاء کرنا سب سے افضل اور بہتر دعاء ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"تم میں سے کوئی ایک اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرے، چنانچہ سجدہ میں کثرت سے دعاء کیا کرو"  
صحیح مسلم حدیث نمبر (482).

سجدہ میں دعاء کے متعلق بہت سی احادیث ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں.

6- دو سجدوں کے درمیان دعاء کرنا :

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعاء پڑھا کرتے تھے :

"اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني"

اے اللہ مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، اور میرا نقصان پورا کر دے اور مجھے ہدایت نصیب فرما، اور مجھے روزی عطا فرما"

سنن ترمذی حدیث نمبر (284) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (898) اس کے علاوہ بھی کئی اور دعائیں ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے.

7- تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے قبل دعاء :

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے چار اشیاء کی پناہ کے لیے یہ دعاء پڑھے :

"اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فقمة الحيا والممات ومن شر فقمة المسح الدجال"

اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے، اور مسح الدجال کے فتنہ کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں"

صحیح بخاری حدیث نمبر (1311) صحیح مسلم حدیث نمبر (588) یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں.

اور بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعاء سکھائیں جو میں اپنی نماز میں کیا کروں.

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تم یہ دعاء پڑھا کرو :

"اللهم اني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني انك انت الغفور الرحيم"

اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اور گناہ بخشنے والا نہیں ہے، چنانچہ تو مجھے خاص اپنی جانب سے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بخشنے والا اور

رحم کرنے والا ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (834) صحیح مسلم حدیث نمبر (2705).

پھر اس کے بعد جو چاہے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعاء کرے، کیونکہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشدد سکھائی اور پھر اس کے آخر میں فرمایا :

"پھر اسے اختیار ہے جو چاہے سوال کرے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (5876) صحیح مسلم حدیث نمبر (402).

نماز میں مانگی جانے والی دعائیں تو بہت ہیں جو اس جواب میں سب بیان نہیں ہو سکتیں، صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس جواب میں بعض دعاؤں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور سائل اور ہر مسلمان کو ہماری نصیحت ہے کہ اس کے پاس امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الاذکار ہونی چاہیے یہ دعاؤں کی مطول کتاب ہے، اور اگر وہ مختصر کتاب چاہتا ہے تو پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب "الکلم الطیب" جس کی تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے اپنے پاس رکھے۔

اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔

واللہ اعلم۔